



رسول اللہ ﷺ کی گفتگو کے کلمات الگ الگ ہوتے تھے، جس کے بارے میں سننے والا سمجھ لیتا تھا

عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی گفتگو کے کلمات الگ الگ ہوتے تھے، جس کے بارے میں سننے والا سمجھ لیتا تھا
 [حسن] [اسلم امام ترمذی نے روایت کیا - اسلم امام نسائی نے روایت کیا - اسلم امام ابو داؤد نے روایت کیا - اسلم امام احمد نے روایت کیا]

عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی اس حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی گفتگو کے کلمات الگ الگ ہوتے تھے یعنی آپ کی گفتگو جدا جدا ہوتی، بایں طو رک کے حروف و کلمات باہم خلط ملط نہیں ہوتے تھے اور آپ کی گفتگو سننے والے کے لیے بالکل واضح اور پیچیدگی و طوالت سے پاک ہوتی تھی آپ کی گفتگو اتنی آہستہ روی سے فرماتے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا آپ کی گفتگو کے الفاظ شمار کرنا چاہتا، تو کر سکتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے اور آپ کی گفتگو بات کی مختصر ہوتی تھی جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ تھوڑے الفاظ میں بہت سارے معانی سمو دیے جائیں اس لیے مناسب ہے کہ انسان کی گفتگو اس طرح سے گڈ مڈ نہ ہو کہ وہ سننے والے کو سمجھنے میں نہ آئے؛ کیوں کہ گفتگو کا مقصد مخاطب کو بات سمجھانا ہوتا ہے اس لیے گفتگو تفہیم سے جتنی قریب تر ہو گی، اتنا ہی بہتر اور اچھا ہو گا پھر انسان جب یہ طرز عمل اپناتا، یعنی اپنی گفتگو کو جدا جدا، صاف اور واضح رکھے اور جو شخص نہ سمجھ پائے، اس کے لیے اسے تین دفعہ دہرائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دوران یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی پیروی کر رہا ہے؛ تا کہ اس کی وجہ سے اسے اجر بھی حاصل ہو جائے اور وہ اپنے مسلمان بھائی کو (اپنی بات) بھی سمجھا دے اسی طرح تمام سنتوں میں اپنے ذہن میں یہی رکھیں کہ آپ ان پر کاربند ہو کر رسول اللہ ﷺ کی پیروی کر رہے ہیں؛ تا کہ اتباع بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب بھی مل جائے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3321>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

